

بروز جمعہ مورخہ 04 / نومبر 2016ء بوقت سہ پہر 03:00 بجے منعقد ہونے والے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے اجلاس کی ترتیب کارروائی

1- تلاوت قرآن پاک و ترجمہ

2- وقفہ سوالات۔

(علیحدہ فہرست میں مندرج سوالات دریافت اور ان کے جوابات دیئے جائیں گے)

3- غیر سرکاری کارروائی۔

مشترکہ قرارداد نمبر 111 منجانب:- آغا سید لیاقت علی، جناب عبدالمجید خان اچکزئی، سردار صالح محمد بھوتانی، جناب پرنس احمد علی، جناب طاہر محمود خان، میر عامر رند، محترمہ عارفہ صدیق، محترمہ یاسمین لہڑی، اور ڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی صاحبہ اراکین صوبائی اسمبلی۔

ہر گاہ کہ ملک کے تمام صوبوں میں ایجوکیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جبکہ بلوچستان میں اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال ایجوکیشن کمیشن عمل میں نہیں لایا گیا ہے۔ لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ صوبے میں جلد از جلد ایجوکیشن کمیشن کا قیام عمل میں لانے کے لیئے عملی اقدامات اٹھائیں۔

مشترکہ قرارداد نمبر 112 منجانب:- آغا سید لیاقت علی، جناب عبدالمجید خان اچکزئی، سردار صالح محمد بھوتانی، جناب پرنس احمد علی، جناب طاہر محمود خان، میر عامر رند، محترمہ عارفہ صدیق، محترمہ یاسمین لہڑی، اور ڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی صاحبہ اراکین صوبائی اسمبلی۔

ہر گاہ کہ ملک کے تمام صوبوں میں ہیلتھ کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جبکہ بلوچستان میں اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال ہیلتھ کمیشن کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا ہے۔ لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ صوبے میں جلد از جلد ہیلتھ کمیشن کا قیام عمل میں لانے کیلئے عملی اقدامات اٹھائیں۔

ایوان کی کارروائی۔

آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ برحسابات حکومت بلوچستان برائے سال 16-2015 ایوان میں پیش کیا جانا۔

اسمبلی قواعد انضباط کار 1974ء کے قاعدہ نمبر 174 کے تحت وزیر خزانہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ برحسابات حکومت بلوچستان برائے سال 16-2015 ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

ڪوئٽه سيڪريٽري
مورخه /04 نومبر 2016ء بلوچستان صوبائي اسمبلي